

اردو ترجمہ قرآن حکیم
پہلا پارہ

از جناب مولانا شبیر احمد صاحب شعبہ تحقیق ادارہ معارف اسلامی
منصورہ - لاہور) ناشر: ادارہ علم القرآن - ۱۰- عینک محل

شاہ عالم مارکیٹ - لاہور - بہ تعاون رضیہ شریف ٹرسٹ ۶۴۶۷ شادمان کالونی، لاہور -
مولانا نہ صرف دین سے گہری محبت رکھتے ہیں بلکہ علوم دینیہ میں ان کا خاصا مقام ہے -
علی الخصوص قرآن اور تفسیر قرآن اور درس قرآن نیز احادیث و فقہ سے خاص دلچسپی،
قرآن کریم کے ترجمہ کا انہوں نے ایک دلچسپ اور مفید تجربہ پیش کیا ہے - یعنی اردو
میں قرآن کا ترجمہ کرتے ہوئے دونوں زبانوں کے الفاظ الگ الگ ہو جاتے ہیں - جس کی
وجہ سے قارئین کو تکلیف ہوتی ہے - مؤلف نے یہ نادر حل نکالا ہے کہ متن کی عبارات میں
دو رنگ استعمال کئے ہیں - یعنی سُرخ اور سیاہ - ترجمہ کرتے ہوئے وہ سُرخ رنگ کے
الفاظ کا ترجمہ سُرخ رنگ میں کرتے ہیں - اور سیاہ رنگ کے الفاظ کا ترجمہ سیاہ رنگ میں -
پہلا پارہ جدید کمپیوٹری طباعت سے آیا ہے - امید ہے کہ دوسرا جلد مل جائے گا -
ہدیہ درج نہیں - مفت تقسیم کے لیے ہے - اور آخری صفحے پچھتے دیکھے ہوئے ہیں جہاں
سے اسے مفت حاصل کیا جاسکتا ہے -

خداوند کریم مولانا کے جذبہ خدمت دین اور خدمت قرآن کی جزائے موفور سے -

اذان | ایڈیٹر: محمد خالد فاروقی - مقام اشاعت: نیویارک (مزید پتہ درج نہیں) کاغذ،
طباعت، ٹائٹل بہت خوبصورت - قیمت فی شمارہ امریکہ میں ۲ ڈالر -
دینی دعوت کا تحریک انگیز رسالہ ہے اور انگریزی اردو دونوں زبانوں میں مضامین پیش کرتا ہے -

ایک انگریزی میفلٹ نام
SELF INTROSPECTION AND MORAL
RECONSTRUCTION - بیراقم الحروف کے ایک مقالے "اپنی اصلاح آپ" کا
انگریزی ترجمہ ہے جو دبیز رنگین ٹائٹل کے ساتھ ۳۳ صفحات میں شائع ہوا ہے -

مترجم: شریف احمد خاں اور ناشر کرامت امڈیشیج ہیں (ادارہ کاپتہ - اسلامک بک پبشرز - پوسٹ بکس ۲۰۲) کوٹ